

بچوں کے لئے بائبل
تحائف

داؤد جبہ
روچہ (پہل)



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



واریاہ کال گو ساؤل بادشاہ سندس اسرائیلس منز اوس اکھ
لڑکہ یس پننیں ستن باین مائی سُنْد جب رچھنس منز اتھ روٹ
کران اوس اگرچہ داؤد ساروئے کونس اوس مگر اوس ساروئے
کھوتہ زیاد طاقتور۔



داؤد اوس اکھ باہمتھ تہم بہادر لڑکہ یس خدایہ سُنڈ لول تہ
تسنز یژھ تہ پڑھ اُس۔ سہ اوس بیت لُحلم شہرک روزن وول۔



اڪه ڏوڀه ڪور اٿه جَبس اڪي سڀهن حمله ٿاڪه پننه ڪهينه
باپته نييه اڪه ڪٿه بر۔ نوجوان داؤدن ڪور اُمس شڪارِس
پتھ واپس حمليه۔ پنن ڪٿه بر ڪوڏنس
دندو تله تہ روٽن يہ گريزون ڏرنڊ پننه
دار ستي تہ زهنن مارتھ۔ داؤد اوس
زانان زِتس ڪور خداين مدد۔



خدایه سُنْد نَبی سَمیول اوس وُنْتِه غمگین ز ساوُل بادشاهن کور
خدایه سُنْد منصوبه ناکام۔ "امس ساوُل بادشاهس پیٹھ کوتاہ
وَدو وونی۔" خداین کور سمیولس گراز۔
"به چُهسته ژ پُستی یس نِش سوزان۔۔۔
تکیاز مرخ ژور اَمسندوے شریو منز اکھ
نوو بادشاه۔" یُستی اوس داوَدن مول۔



اگرچہ سمیوّل زانان اوس ز ساوّل ما
ژهنہ تمس مارتھے کانسہ بیس
بادشاہس ہیتھ گژهنہ باپتھ، مگر
پیغمرن گر حکمچ تعمیل۔





بیلہ سمیولن اور ووت یسی ہن
گڈی پنی ستوے گوبر امس
برونہ کنی مگر سمیولن وون
یسی یس "خداوندن ژاری نہ
یم" پتھ کن اوس فقط کونس
ہیو داؤد رودمت۔ سہ اوس امہ
وز نیبر جس سیتی۔ تمو اون
داؤد ناد دتہ۔ تہ خداوندن
وونکہ "وتھیو گریو امس
تعظیم تہ مان۔ تکیاز یہوے
چہ سہ اکہ۔"




ساوُل سترِ جايه تروو خداوند سندي روحن ساوُل ته سُه پيو
انتشارس منز ته آس بئته۔ امي سنديو نوکرو سونچ ز شايد ما
کر کانه رت ساز امسند دماغ
شانت۔ يمو منز اوس اکھ نوکر
اکس هارپ بجاون والس ته
زانان۔ هیکوا انداز گرتھ
په جوان کس هيگه
استه؟ آ! بلکل
"داؤد"۔



داؤد سندی سازن اون ساؤل سُنْد
دماغ بلکل لییه تہ سیز وتہ پیٹھ۔
ساولکن وون یستی یس زیہ داؤد
تراؤن یتی بادشاہ سُنْد خدمتہ
بایتھ۔ ییلہ تہ ساولس کائہ
انتشار یا ناامیدی نال ولہ ہے۔
داؤد اوسس ہارپ (بربط) بجاوان۔
تہ یہ اوس بیہ ڈنجہ بہان۔



پیلہ داؤد گر گو ساولس پیو اکھ بوڈ جنگ فلسطینین ستری
لڈن۔ داؤد سندیو بایو لوڈ ساول سندیس فوجس ستری ستری
یسری یں سوز داؤد جنگہ کس مادانس کن۔ پننیں باین
کینہ کھین چین ہیتہ۔ تہ تہنز خبر انہ۔



اڪري ويڙهي پوڙهي ته باڙو دار جوليت ناوري فلسطيني ديون آسي
ساري اسرائيلي شرڪين ڙانمٽي۔




"پنیو منڑ ژاری وون کائہہ نفراتہم سوزوون مے سئی لڑنہ"
جولیتن وونکے یہ کریکے دتہ۔ "اگر سہ مے سئی پزی لڑتہ ہیکہ
تی مے مار اسی بنو ساری تہندی غلام۔ یودوے بہ سہ
مارن تیلہ چھو توہہ سارنی سون غلام بنن تہ سانی
خدمت کرنی۔" اسرائیلکی ساری مرد

ژلی دہی لد گگر
ہی ییلہ، تمویہ

دیوہیو نفر وچہ۔
تم اسی یہ وچہتہ
کونن اژان۔



دَاؤُنْ وُونِ سَاؤُلْسَ "يِنِهْ كَانَسَهْ نَفْرِ سُنْدِ دِلِ بَهِيَهْ اَمَسِ دِيُوسِ كُنْ
وُجَهْتَهْ - چُونِ يَهْ خَادَمِ نِيرِ پَانِهْ اَمَسِ فِلَسْطِينِيَسِ سِيْتِي لَرْنَهْ -"
سَاؤُلْ اوسِ يَزْهَانِ دَاؤُدِ لَاگِهْ زَرِ بَكْتَرِ تَهْ تَلْوَارِ تَلِهْ سِيْتِي - دَاؤُدِنِ تُلْ
پَانَسِ سِيْتِي پِنِ گَلِيلِهْ تَهْ بِيِيَهْ تَلِنِ اَكِهْ اَبِهْ كُولِهْ مَنَرِ پَانْزْهْ كَنِهْ پُهَلِيَهْ -






جولیتن ترورو بد اسن یتلہ
امی داؤد کنہ زره بکتر
ورایی وچہ۔ "بہ دمہ چون
ماز پمین وڈونین جاناورن
تہ مادانی جانورن۔" سہ
گریزیو۔ "بہ آس ژمے کن
خداوند سندس ناوس
پیٹہ۔" داؤدن وونس یور۔
"ازکہ لٹہ دیی خداوند
ژمے میانین اتھن منز۔
تکیاز یہ جنگ چہ
خداوند سند۔"



یہ وُنتہ دوریو داؤد
سیودے جولیتس
کن۔ دوران دورانے
لامے امی اکھ کنی
جولیت سندس
ڈیکس۔ جولیت او
پتھر وُکراونہ!




داؤدن تۇج ۇلى ۇلى جوليت سىز تلوار تە نيون تس كله ژۇتتە - يىله
جوليت فلسطينيو مران وچھ تم ژلى پن پن زو موچھ منز رۇتتە -




ساوَل بادشاہس آو نہ یہ وہمہ گمانسے منز تہ ز یہ چہ سُسے داؤد
یُس اُمس ہارپ اوس وایتہ آرام اوس ڈوان۔ تمی دیوت پنن فوج
داؤد سندس تحویلس منز۔ مگر پتہ گو حد

پار یلہ، لوکو داؤدس امہ فتح باپتہ
عزت افزایی گر۔ سالن سوئچ پانس
ستی ز اما امہ اپور کیاہ لبہ یہ یمہ
سلطنتہ وراے۔ بس امہ دوہ پتہ تھوو
ساولن داؤد پننن اچھن تل۔



ساوِلَ بادِشاہِ سُنْدُسِ دِماغِسِ ووِتھِ بیبِ اِنْتِشارِ۔ لِهْزِا ووِے داؤدِنِ
بیبِ اَمِساَرِامِ دِنِہِ باپتھِ ساَزِ۔ ساوِلِنِ لوِے تریبِ پھِرِ پِنِنِ نِیزِ
داؤدِسِ۔ مگرِ داؤدِ بچوِوِ پڑتھِ وِزِ۔ ساوِلِ اوسِ ووِنِ داؤدِسِ
کھوڑانِ۔ تکیازِ سُهْ اوسِ زانانِ زِ خِداوندِ

چھِ تِسِ سِیتِیِ
بیلِہِ زِنِ خِداوندِنِ
سُهْ تراوتھِ زُهْنَمْتِ چھِ۔



مگر جولیتن ساؤل سُنْد نِچو اوس داؤدس لول
بران اکیس باے سِنْدی پاٹھی۔ "میون مول ساؤل چھ
ژمے مارتھ ژھنن یژھان۔" تمی کور داؤد خبردات۔
لہذا ژول داؤد زو بچاوتھ۔ امسینز آشنہ تھاو اکھ
نقلی انسانی صورت ہش بستریس منز
بناوتھ تہ داؤد ترووون نصف راژ کیوت
دار کینی رز گنڈتھ بون۔ پیلہ ساؤل سِنْدی
نفر صبحس داؤدس
رٹنہ آے سہ اوس
درامت۔



داؤدس اوس ساؤلس نيشه وارياه دور ژن مگر ژلنه برونه اوس
تمی یونتس سیتی اکھ عہد کورمت۔ تمو کور ہر روز اکھ اکس
مدد کرنک وعد۔ افسوس چھ زیمین دون یارن پیو اکھ اکس
الوداع کرن۔ داؤد دراو سو کانہہ جامے ژھانڈنہ بیتہ ساؤل
سندی سپاہ امس

لبتہ ہکن نہ۔



داؤد جبہ روچہ (پہل)

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

1 سمیول 16-20

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

